

پھیپھڑوں کے مرحلہ چار 10 سالہ سرطان سے آزاد، کینسر کے غیر-زہریلے متبادل طریقہ علاج سے -- باربا پلٹ کر آنے والا پھیپھڑوں کا سرطان جامع امیونوتھراپیکا جواب دیتا ہے

اسکاٹسڈیل، ایریزونا، 11 فروری 2014ء/پی آر نیوز وائر/--

پھیپھڑوں کا سرطان دنیا بھر میں سرطان سے ہونے والی اموات کا سب سے عام سبب ہے، انتہائی مہلک چھوٹے خلیوں کی وجہ سے پھیپھڑوں کا سرطان تشخیص کے معاملے میں بدترین ہے۔ حالیہ سالوں میں امیونوتھراپی نے سرطان کے شکار افراد کو نئی امید دی ہے۔

اس اعلامیہ سے متعلقہ ملٹیمیڈیا اثاثے دیکھنے کے لیے ملاحظہ

گو کہ سرطان کے معروف مراکز نے حال ہی میں امیونوتھراپی متعارف کروائی ہے لیکن اسیلز جامع امیونوتھراپی میں دہائیوں سے رہنما ادارہ ہے۔

1951ء میں ڈاکٹر جوزف ایم اسیلز نے جامع امیونوتھراپی کی بنیاد پر اونکولوجی میں مہارت رکھنے والا دنیا کا پہلا ہسپتال قائم کیا۔ انہوں نے [روایتی علاج کے خلاف مزاحمت رکھنے والے سرطانوں میں طویل المیعاد بنیادوں پر کمی](#) کو دستاویزی شکل دی۔ ڈاکٹر اسیلز اپنے تجربے کی وجہ سے سرطان کے خلاف جنگ کے لیے جرمن وفاقی حکومتی کمیشن میں تجربہ کار رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے لیے مدعو کیے گئے، جہاں وہ 1981ء سے 1987ء میں اپنی ریٹائرمنٹ تک موجود رہے۔

[اسیلز جامع امیونوتھراپی](#) خود کو ڈیڈ ریٹک سیل ویکسین جیسی مخصوص [آٹولوجوس کینسر ویکسینز](#)، ساتھ ساتھ آٹولوجوسلمفوکائٹ-ایکٹیویٹنگ (LAK) سیلز اور متحرک آٹولوجوسنیچرلکٹر (این کے) خلیات، میں شامل کر کے محض ویکسین ایڈمنسٹریشن سے واضح طور جدا کرتی ہے، اور رسولی میں نچلی ترین سطح پر نمٹنے کے لیے [جامع امیونوبایولوجک کور ٹریٹمنٹ](#) میں مامونیاٹی نظام میں خلیاتی سطح پر کام کرتی ہے۔ اسیلز حکمت عملی جسم کے پیچیدہ دفاعی طریقوں کو بہتر بناتی ہے، ویکسین اور خلیاتی علاج کی موثریت کو تقویت دیتی ہے، جیسا کہ جم گبسن کے کیس میں دیکھا گیا۔

مارچ 2003ء میں جم گبسن نے غیر-زہریلے اسیلز جامع امیونوتھراپی کا آغاز کیا جس میں ان کے دوبارہ لوٹ آنے والے چھوٹے خلیاتی پھیپھڑوں کے سرطان کے لیے ڈیڈ ریٹک سیل ویکسین بھی شامل تھی، جو پھیپھڑوں کے تمام سرطانوں میں سب سے مہلک قسم ہے۔ 4 ہفتوں کے خصوصی اسیلز امیونوتھراپی کے بعد انہوں نے رسولی کے اخراج کو مکمل کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اب بھی سرطان سے آزاد اور روایتی علاج کے بغیر بہت متحرک 10 سال گزار چکے ہیں۔

نکول ٹیر نے اپنی چھوٹی آنت کے تحولی سرطان کے اسیلز امیونوبایولوجک کور علاج کے اپنے تجربہ کو بیان کیا: "میں نے آخری امید کے طور پر اسیلز کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں یہاں آئی تو میں مکمل طور پر برباد تھی۔۔۔ اور پھر اچانک میں بلیوں اچھلی۔ اپنے آخری الٹراساؤنڈ میں میری 12 سینٹی میٹر کی رسولی مکمل طور پر غائب تھی اور میرے پیٹ کی دیگر تمام رسولیاں بھی نصف سے کم ہو گئیں۔"

نکولاسیلز امریکی [اؤٹ-پیشنٹ تنصیب](#) میں اسیلز امیونوبایولوجک علاج سے گزریں، جہاں مریضوں کو سرطان کا جدید جینیاتی تیز ہدف علاج بھی ملتا ہے۔

اسیلز میڈیکل ٹیم انتہائی خاص جامع امیونوتھراپی پروگراموں کی فراہمی کے لیے دہائیوں کا تجربہ رکھتی ہے۔ ویکسین اور خلیاتی طریقہ علاج میکسیکو میں 22 ہسپتالوں کے سب سے بڑے نجی ہسپتال جال کی جدید ترین تنصیب کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں، جو امریکہ و بین الاقوامی معیار کی اعلیٰ ترین سطح کے حامل ہیں۔ یہ میکسیکو میں مکمل خدمات فراہم کرنے والا واحد ہسپتال ہے جو جامع ادویات دے رہا ہے۔

اسیلز علاج کے پروگراموں اور تنصیبات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اسیلز کی ویب سائٹ www.issels.com ملاحظہ کیجیے، یا مریضوں کے شہادت نامے کی مزید وڈیوز دیکھیں۔

رابطہ: السے میری اسیلز، صدر، اسیلز فاؤنڈیشن انکارپوریٹڈ، +1.888.447.7357، issels@att.net